



# 37 ÉME IJTEMA NATIONAL

MAJLIS  
ATFAL-UL-AHMADIYYA

**F R A N C E**

**15 AU 17 AOÛT 2025**

2 ROUTE DE LA CROIX BLANCHE, 60590 TRIE-CHÂTEAU

یہ جو ذیلی تنظیموں کے اجتماعات ہیں اس لئے منعقد کئے جاتے ہیں تاکہ مختلف پروگراموں میں حصہ لے کر خدام اپنے دینی، علمی، روحانی معیاروں کو بہتر کر سکیں اور بہتر کرنے کی طرف توجہ دے سکیں اور ساتھ ہی مختلف کھیلوں کے پروگرام ترتیب دے کر اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ جسم کا جو حق ہے وہ بھی ادا کیا جائے کیونکہ صحت مند جسم ہو گا تو زندگی کا جو اصل مقصد ہے یعنی عبادت، اس کا بھی حق ادا ہو سکتا ہے۔ اور پھر کھیلوں کے پروگراموں سے شائقین کی بھی اور پلیئرز (PLAYERS) کی بھی ذہنی تفریح بھی ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ صحت مند تفریح صحت مند جسم کے لئے ہے اور صحت مند جسم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کے لئے ضروری ہے۔ یہ عبادتیں ہی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل نے تمہیں باقی تعلیمات پر عمل کرنے کے قابل بنانا ہے۔

حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز

Ces Ijtema locaux sont organisées afin que les Khuddams puissent, en participant à différents programmes, améliorer leur niveau religieux, intellectuel et spirituel, et qu'ils puissent aussi porter leur attention sur cette amélioration. En même temps, en organisant divers programmes sportifs, on veille également à ce que la santé physique soit respecté, car un corps sain permet de remplir le véritable objectif de la vie, c'est-à-dire l'adoration. Par ailleurs, les programmes sportifs offrent aussi un divertissement mental aux spectateurs comme aux joueurs. Gardez toujours à l'esprit qu'un divertissement sain est bénéfique pour un corps sain, et qu'un corps sain est nécessaire pour accomplir les commandements d'Allah. Ce sont ces adorations qui attirent la grâce d'Allah, et c'est ensuite cette grâce d'Allah qui vous rendra capables de mettre en pratique le reste de Ses enseignements.

# VENDREDI 15 AOÛT 2025

11H30	Inspection	معائنہ اجتماع
12H00	Déjeuner	کھانا
13H30	Prière du Vendredi & Asr	نماز جمعہ و عصر
14H00	Sermon du Calife <sup>aba</sup>	خطبہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز
15H15	Lever des drapeaux	پرچم کشائی
15H30	Session d'ouverture	افتتاحی اجلاس
16H15	Compétitions religieuses Récitation du Saint Coran, Discours Ourdou, Poème	علمی مقابلہ جات تلاوت، اردو تقریر، نظم
18H30	Compétitions sportives	ورزشی مقابلہ جات
19H45	Dîner	کھانا
20H30	Compétitions sportives	ورزشی مقابلہ جات
21H30	Prières de Maghrib & Isha	نماز مغرب و عشاء
22H00	Documentaire	ڈوکومنٹری



ITEMA  
NATIONAL  
MAJLIS  
ATFAL  
UL  
AHMADIYYA  
FRANCE

2025

# SAMEDI 16 AOÛT 2025

04H45	Prière de Tahajjud	نماز تهجد
05H30	Prière de Fajr, dars et tilawat	نماز فجر، درس و تلاوت
08H00	Petit déjeuner	ناشئة
09H00	Compétitions religieuses Traduction du Saint Coran, Hifz-ul-Quraan, Discours improvisé, Discours Français, Adhan/Transmission de message	علمی مقابلہ جات ترجمہ القرآن، حفظ القرآن، تقریر فریج، تقریر فی البدیہہ، آذان، پیغام رسائی
12H00	Pause	وقفہ
12H45	Compétitions religieuses	علمی مقابلہ جات
14H00	Déjeuner	کھانا
14H45	Prières de Zohr & Asr	نماز ظہر و عصر
15H15	Compétitions sportives	ورزشی مقابلہ جات
19H45	Compétitions religieuses	علمی مقابلہ جات
20H45	Dîner	کھانا
21H30	Prières de Maghrib & Isha	نماز مغرب و عشاء
22H00	Discussion avec les Atfals	اطفال کارنر



IJTEMA  
NATIONAL  
MAJLIS  
ATFAL  
UL  
AHMADIYYA

FRANCE

2025

# DIMANCHE 17 AOÛT 2025

04H45	Prière de Tahajjud	نماز تهجد
05H30	Prière de Fajr, dars et tilawat	نماز فجر، درس و تلاوت
08H00	Petit déjeuner	ناشئة
09H00	Compétitions sportives	ورزشی مقابلہ جات
11H30	Compétitions religieuses Salaat, duaa, attribut de Dieu, hadiths	علمی مقابلہ جات نماز، دعا، اسماء الہی حدیث
13H00	Déjeuner	کھانا
14H30	Prières de Zohr & Asr	نماز ظہر و عصر
15H00	Session de clôture	اختتامی اجلاس

Bonne route

اللہ حافظ



IJTEMA  
NATIONAL  
MAJLIS  
ATEFAL  
UL  
AHMADIYYA  
FRANCE  
2025

PRIÈRES PRESCRITES PAR HUZOOR-E-ANWAR  
SERMON DU VENDREDI 23 AOÛT 2024

حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی دعاؤں کی تحریک  
بروز جمعۃ المبارک 23 اگست 2024

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ۔  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ۔

‘SAINT EST ALLAH ET DIGNE DE TOUTE LOUANGE, SAINT EST ALLAH, LE  
GRAND. Ô ALLAH, RÉPANDS TES BÉNÉDICTIONS SUR MUHAMMAD ET SUR  
LA DESCENDANCE DE MUHAMMAD.’

ہر احمدی کو روزانہ کم از کم 200 مرتبہ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔

CHAQUE AHMADĪ DEVRAIT RÉCITER CELA AU MOINS 200 FOIS PAR JOUR.

بچوں کو بھی یہ دعا 25 تا 30 بار روز پڑھوائیں۔ روزانہ صبح و شام بچوں سے یہ دعا پڑھوائیں۔

LES ENFANTS DEVRAIENT LE RÉCITER 25 À 30 FOIS CHAQUE JOUR, MATIN  
ET SOIR. LES TRÈS JEUNES ENFANTS DEVRAIENT LE RÉCITER AVEC LEURS  
PARENTS 15 FOIS PAR JOUR.

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔

‘JE DEMANDE PARDON À ALLAH, MON SEIGNEUR, POUR TOUS MES PÉCHÉS  
ET JE ME TOURNE VERS LUI.’

ہر احمدی کو روزانہ کم از کم 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔

TOUS LES AHMADĪS DEVRAIENT RÉCITER CETTE PRIÈRE 100 FOIS PAR  
JOUR.

رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ خَادِمَكَ

رَبِّ فَاحْفَظْنِي وَأَنْصُرْنِي وَأَرْحَمْنِي۔

‘Ô MON SEIGNEUR ! TOUT TE SERT.

ALORS PROTÈGE-MOI, AIDE-MOI ET FAIS-MOI MISÉRICORDE.’

ہر احمدی کو روزانہ کم از کم 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔

TOUS LES AHMADĪS DOIVENT RÉCITER CETTE PRIÈRE 100 FOIS PAR JOUR.